



قائد اعظم ٹرافی فرسٹ ایون ٹورنامنٹ کے آخری راؤنڈ کا تیسرا روز مکمل

- ناردرن اور خیبرپختونخوا کے درمیان فائنل میں رسائی کی جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل
- سنٹرل پنجاب اور سدرن پنجاب کے درمیان میچ ڈرا کی جانب گامزن
- سندھ کے سعود شکیل اور خرم منظور کی سنچریاں

لاہور، 4 دسمبر 2019ء:

یو بی ایل اسپورٹس کمپلیکس کراچی میں ناردرن اور خیبرپختونخوا کے درمیان اہم میچ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ میچ کے آخری روز خیبرپختونخوا کو جیت کے لیے 206 رنز جبکہ ناردرن کو 8 وکٹیں درکار ہیں۔ 245 رنز کے ہدف کے تعاقب میں خیبرپختونخوا نے تیسرے روز کھیل کے اختتام پر 2 وکٹوں کے نقصان پر 39 رنز بنالیے ہیں۔ اشفاق احمد اور اسرار اللہ میچ کے آخری روز خیبرپختونخوا کی جانب سے کھیل کا دوبارہ آغاز کریں گے۔ اس سے قبل 105 رنز کی سبقت سے دوسری اننگز کا آغاز کرنے والی ناردرن کی ٹیم نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 139 رنز بنا کر اپنی اننگز ڈکلیئر کر دی۔ اوپنر ذیشان ملک نے ایونٹ کی چھٹی نصف سنچری اسکور کرتے ہوئے 52 رنز کی اننگز کھیلی۔ پہلی اننگز میں 4 شکار کرنے والے خیبرپختونخوا کے اسپنر ساجد خان نے دوسری اننگز میں 2 وکٹیں حاصل کیں۔ خیبرپختونخوا نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 156 رنز سے میچ کے تیسرے روز کا آغاز کیا تو پوری ٹیم 306 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ وکٹ کیپر بیٹسمین ریحان آفریدی نے 95 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیل کر خیبرپختونخوا کو پہلی اننگز میں مشکلات کے بھنور سے نکالا۔ اس دوران مہران ابراہیم نے 54 رنز بنا کر ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ ناردرن کے وقاص احمد نے 6 کھلاڑیوں کو پولین کی راہ دکھائی۔

دوسری جانب اسٹیٹ بینک اسٹیڈیم کراچی میں جاری میچ ڈرا کی جانب گامزن ہے۔ سنٹرل پنجاب کو دوسری اننگز میں 206 رنز کی سبقت حاصل ہے جبکہ اس کی 10 وکٹیں باقی ہیں۔ اس سے قبل سنٹرل پنجاب کے 597 رنز کے جواب میں سدرن پنجاب کی ٹیم 392 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ ذیشان اشرف 141 اور سلمان علی آغا 140 رنز بنا کر سدرن پنجاب کی جانب سے نمایاں بیٹسمین رہے۔ ذیشان اشرف کی اننگز میں 15 چوکے اور 3 چھکے شامل تھے جبکہ 166 گیندوں پر مشتمل سلمان علی آغا کی اننگز میں 18 چوکے اور 3 چھکے شامل تھے۔ سنٹرل پنجاب کے اسپنر بلال آصف نے 5 وکٹیں حاصل کیں۔ سنٹرل پنجاب نے دوسری اننگز میں بغیر کسی نقصان کے 1 اسکور کر لیا ہے۔ کامران اکمل اور سلمان بٹ میچ کے آخری روز کھیل کا دوبارہ آغاز کریں گے۔

ادھر نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں جاری میچ میں بلوچستان کے 471 رنز کے جواب میں سندھ نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 356 رنز بنالیے ہیں۔ سندھ کی جانب سے 1 وکٹ کے نقصان پر 71 رنز سے میچ کے تیسرے روز پہلی اننگز کا دوبارہ آغاز کرنے والے نوجوان بلے باز سعود شکیل اور تجربہ کار اوپنر خرم منظور نے پراعتماد کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سنچریاں اسکور کیں۔ سعود شکیل 151 اور خرم منظور 109 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ دونوں کھلاڑیوں کے درمیان 213 رنز کی شراکت قائم ہوئی تاہم سعد علی اور سرفراز احمد کے جلد آؤٹ ہونے کے بعد فواد عالم نے ذمہ دارانہ کھیل کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کھیل کے اختتام پر 69 رنز بنالیے ہیں جبکہ حسن محسن 7 کے انفرادی اسکور پر ناٹ آؤٹ ہیں۔ دونوں کھلاڑی میچ کے آخری روز سندھ کی جانب سے پہلی اننگز کا دوبارہ آغاز کریں گے۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk